

**Maulana Azad National Urdu University**  
**B.Sc. (Z.B.C/M.P.C.) II Semester Examination - May - 2018**

**BSCH201CCT: Molecules of Life**

Time : 3 hrs

Marks : 70

ہدایات:

یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لئے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات/ خالی جگہ پر کرنا/ مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔ (10 x 1 = 10 Marks)
2. حصہ دوم میں 8 سوالات ہیں، اس میں سے طالب علم کو کوئی پانچ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً دو سو (200) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 6 نمبرات مختص ہیں۔ (5 x 6 = 30 Marks)
3. حصہ سوم میں 5 سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی تین سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (500) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔ (3 x 10 = 30 Marks)

### حصہ اول

سوال (1)

تحویلی شوگر (Reducing Sugar) کی ایک مثال دیجیے۔ (i)

گلائی کوسیدک بونڈ (Glycosidic bond) کیا ہے۔ (ii)

ایک ایسے امینو اسٹر کی مثال دیجیے جس میں غیر تشاکل کاربن جوہر (Asymmetric carbon atom) موجود ہیں۔ (iii)

پپیٹائیڈ بند (Peptide bond) کیا ہے۔ (iv)

پروٹین کی ابتدائی (Primary Structure) ساخت کیا ہے۔ (v)

ویٹامن 'C' کا کیمیائی نام (Chemical name) کیا ہے۔ (vi)

نیوکلیک اسٹر کے جز Component کیا ہیں۔ (vii)

نیوکلیوسائید (Nucleoside) کیا ہے۔ (viii)

ہائیڈروجنیشن (Hydrogenation) کیا ہے۔ (ix)

صابن (Soap) کیا ہے اور اس کا عام ضابط (General formula) بھی کیا ہے۔ (x)

### حصہ دوم

(2) مندرجہ ذیل اصطلاحات کی (Terms) مثال دے کر تعریف بیان کیجیے۔

(i) انیومرس (Anomers)      (ii) اپیمرس (Epimers)      (iii) میوتاروڈیشن (Hydrogenation)

(3) سوکروز، مالٹوز اور لیکٹوز کے آبیدگی محصولات (Hydrolysis product) کیا ہیں۔ کیا کمی مساوات (Chemical Equation) کیا ہیں۔

لکھئے اور ہر ایک کی کھلی ساخت (Open Structures) بنائے۔

- (4) مندرجہ ذیل کی مثال دے کر تعریف بیان کیجیے۔
- آئیسو ایکٹرک پوائنٹ (Isoelectric point)
  - زوٹر آئن (Zwitter ion)
  - پروٹین کاڈی نپوریشن (Denaturation of protein)
- (5) پروٹین کی ثانوی ساخت (Secondary Structure) پر بحث کیجیے۔
- (6) وٹامن کیا ہیں۔ ان کی درجہ بندی کیجیے۔ وٹامن A، C اور  $B_1$  کے ذرائع (Sources) اور ان کی کمی سے ہونے والی بیماریوں کو بیان کیجیے۔
- (7) نیکلیوتائیدس (Nucleotides) کیا ہیں۔ DNA اور RNA میں فرق بیان کیجیے۔
- (8) فیٹی ایسٹ (Fatty acid) کیا ہیں۔ تیل اور فیٹ میں موجود (Common fatty acids) کے نام لکھئے۔
- (9) مندرجہ ذیل کی تعریف مثال دے کر بیان کیجیے۔

Saponification value اور Saponification (i)

- آئوڈین قدر (Iodine Value)
- رینسی ڈلی (Rancidity)

### حصہ سوم

- کاربوہائیڈریٹ کیا ہیں۔ ذائقہ کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کیجیے۔ گلوکوز کی کھلی ساخت پر بحث بھی کیجیے۔
  - گلوکوز کی Pyranose ساخت بنائیے۔ گلوکوز کو فروکٹوز میں اور فروکٹوز کو گلوکوز میں تبدیل کیے کریں گے۔ مساوات دے کر بیان کیجیے۔
  - پروٹین کیا ہیں۔ ان کی درجہ بندی کیجیے۔ پروٹین کی تالیف (Synthesis) لکھئے۔
  - Nucleic acids کیا ہیں۔ DNA اور RNA میں موجود مختلف اساس (base) اور Sugar کی شاخت بنائیے۔
  - مندرجہ ذیل پر مختصر نوٹ لکھئے۔
- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Glycolipids (ii) | Omega fatty acids (i) |
|------------------|-----------------------|

☆☆☆